

پری اپر پرائمری اسکالرشپ امتحان برائے پنجم جماعت، جولائی 2022

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

نشست نمبر

سیٹ



0 2 0 1



پرچہ نمبر : I

وقت : 11:00 سے 12:30

کل نمبرات : 150

میڈیم : اُردو

مضمون : زبانِ اوّل (اُردو) اور علمِ ریاضی

کل صفحات : 32

سوالیہ پرچہ حل کرنے سے پہلے دی گئی ہدایات کو غور سے پڑھیے۔

- (1) اس سوالیہ پرچہ کے دو حصے ہیں۔ حصہ ”I“ میں زبانِ اوّل (اُردو) کے لیے 1 سے 25 اور حصہ ”II“ میں علمِ ریاضی کے لیے 26 سے 75 ایسے کل 75 سوالات ہیں۔ تمام سوالات حل کرنا لازمی ہیں۔
- (2) ہر سوال کے لیے دو (2) نمبرات ہیں۔
- (3) سوالیہ پرچہ حل کرنے کے لیے کل 90 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔
- (4) جواب کا اندراج کرنے کے لیے الگ سے جوابی پرچہ دیا گیا ہے۔ ہر سوال نمبر کے سامنے چار متبادلات کے لیے ترتیب وار چار دائرے دیے گئے ہیں۔ اس میں صحیح متبادل والے دائرہ کو دی گئی مثال کے مطابق رنگ بھرنا ہے۔
مثال : سوال نمبر 6 کے صحیح جواب کا متبادل نمبر 2 ہو تو اسے اس طرح درج کریں :
- سوال نمبر 6 : ① ● ③ ④
- (5) ذیل کے مطابق درج کیے گئے جوابات قبول نہیں کیے جائیں گے۔
⑤ ⊗ ② ⊙ ⊛
- (6) ہر سوال کے جواب کے لیے ایک سے زیادہ رنگے ہوئے دائرے، کانٹ چھاٹ کیے ہوئے جوابات قبول نہیں کیے جائیں گے۔
- (7) ایک مرتبہ درج کیا ہوا جواب تبدیل کیا جاسکے گا۔
- (8) متبادل دائرے کو بھرتے وقت صرف کالی (سیاہ) یا نیلی بال پین کا استعمال کریں۔ پینسل سے بھرے گئے جوابات ناقابل قبول ہوں گے۔
- (9) سوالیہ پرچہ میں ہر صفحہ کی چٹائی جانب اور پرچہ کے آخری صفحے پر پرف کا کام کے لیے جگہ مہیا کی گئی ہے۔ اسی جگہ پر پرف کام کیا جائے۔
- (10) امتحان کے لیے وقت محدود ہے اس لیے اگر آپ کو کسی سوال کا جواب نہیں آتا ہو تو اگلا سوال حل کریں۔ آخر میں وقت بچنے پر بقیہ سوالات حل کرنے کی کوشش کریں۔
- (11) اگر کسی سوال میں خامی / غلطی ہو تو اس کی پوچھ تاچھ ’ سپروائزر ’ یا ’ سینئر انچارج ’ سے نہ کریں۔
- (12) سوال میں کوئی خامی / غلطی / اعتراض ہو تو اسکول یا سرپرست اس کی تحریری شکایت B. E. O. یا ایجوکیشن آفیسر کو نہ بھیجتے ہوئے براہ راست متعلقہ اسکول کے Login (لاگ ان) سے آن لائن بھیجیں۔
- (13) خامی / غلطی / اعتراض سے متعلق تحریری شکایت آن لائن روانہ کرنے کی مدت پر پیکشا پریشڈ کی ویب سائٹ پر جوابات شائع کرنے کے بعد دس دنوں تک رہے گی۔
- (14) طباعت کی غلطی یا دیگر وجوہات کی وجہ سے اگر سوال میں کوئی غلطی سرزد ہوگی تو ماہرین کی کمیٹی کی آراء کے مطابق مناسب کارروائی کی جائے گی۔
- (15) اردو زبان کے ساتھ انگریزی زبان میں سوالیہ پرچہ دیا گیا ہے۔ اردو زبان کے مشکوک سوالات کے لیے انگریزی زبان میں دیا ہوا سوال دیکھیں۔

SECTION - I

اردو

سوال نمبر 01 سے 03 کے لیے ہدایت :

ذیل کا پیرا گراف پڑھ کر اس کے نیچے دیئے ہوئے سوالات کے صحیح متبادل پہچانیے۔

ماں کو اپنے بیٹے اور کسان کو اپنے لہلہاتے کھیت دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے، وہی خوشی بابا بھارتی کو اپنا گھوڑا دیکھ کر ہوتی تھی۔ گھوڑا بہت خوبصورت تھا۔ اس کے جوڑے کا گھوڑا سارے علاقے میں نہ تھا۔ بابا بھارتی اسے سلطان کہہ کر پکارتے تھے۔ اپنے ہاتھ سے مالش کرتے، خود دانہ کھلاتے اور دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ انھوں نے روپیہ، مال، اسباب اور زمین سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ یہاں تک کہ انہیں شہری زندگی سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ اب گاؤں سے باہر وہ ایک چھوٹے سے مندر میں رہتے اور پوجا کرتے تھے۔

”میں سلطان کے بغیر نہیں رہ سکوں گا“ انھیں وہم سا ہو گیا تھا۔ وہ اس کی چال پر فدا تھے۔ جب تک شام کے وقت سلطان پر سوار ہو کر آٹھ۔ دس میل کا چکر نہ لگا لیتے انھیں چین نہ آتا تھا۔

01. گھوڑا دیکھ کر کون خوش ہوتا تھا؟

- (1) ماں
(2) کسان
(3) بابا بھارتی
(4) سلطان

02. بابا بھارتی گھوڑے کو کس نام سے پکارتے تھے؟

- (1) سلطان
(2) کسان
(3) بادشاہ
(4) بادل

رف کام کے لیے خالی جگہ

03. بابا بھارتی کو کیا وہم ہو گیا تھا؟

- (1) میں روپیہ کے بغیر نہیں رہ سکوں گا؟
(2) میں مال کے بغیر نہیں رہ سکوں گا؟
(3) میں اسباب کے بغیر نہیں رہ سکوں گا؟
(4) میں سلطان کے بغیر نہیں رہ سکوں گا؟

سوال نمبر 04 سے 06 کے لیے ہدایت :

ذیل کی نظم کو غور سے پڑھیے اور پوچھے گئے سوالات کے صحیح جوابات پہچانیے۔

ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا
کہتا تھا کہ رات سر پر آئی اڑنے چلنے میں دن گزارا
پہنچوں کس طرح آشیاں تک ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا
سُن کے بلبل کی آہ وزاری جگنو کوئی پاس ہی سے بولا
حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا
کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری میں راہ میں روشنی کروں گا
اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل چمکا کے مجھے دیا بنایا
ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے
آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔

04. اس نظم میں کس کے درمیان گفتگو ہوئی ہے؟

- (1) ٹہنی اور شجر
(2) بلبل اور جگنو
(3) شجر اور بلبل
(4) جگنو اور کیڑا

رف کام کے لیے خالی جگہ

05. بلبل کی آہ وزاری پر مدد کے لئے کون تیار ہوا؟

- (1) جگنو
(2) شجر
(3) ٹہنی
(4) بلبل

06. اس جہاں میں اچھے لوگ کون ہیں؟

- (1) جو آہ وزاری کرتے ہیں۔
(2) جو دوسروں کے کام نہیں آتے۔
(3) جو آہ وزاری نہیں کرتے۔
(4) جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔

07. درج ذیل متبادل میں سے مونث لفظ کی شناخت کیجئے۔

- (1) بادشاہ
(2) اداکارہ
(3) شہنشاہ
(4) شہزادہ

08. ذیل کے جملے میں سے فعل پہچانیے۔

- گائے گھاس کھاتی ہے۔
(1) کھاتی
(2) گھاس
(3) گائے
(4) ہے

09. غلط جوڑی متبادل میں سے پہچانیے۔

- (1) کتاب - کتب
(2) خبر - اخبار
(3) دلیل - ادلال
(4) ذہن - اذہان

10. زمانہ ماضی ظاہر کرنے والا متبادل پہچانیے۔

- (1) اکبر روتا ہے۔
(2) اکبر رو رہا ہے۔
(3) اکبر رونے والا ہے۔
(4) اکبر روتا تھا۔

رف کام کے لیے خالی جگہ

11. ”ی ث غ ا ن ا د ل ی“ ان حروفوں کا استعمال کر کے ایک نام بنائیے اور بتائیے اس کا درمیانی حروف کیا ہے؟

(1) ا (2) ث

(3) ل (4) د

12. املا کے لحاظ سے غلط متبادل پہچانیے۔

(1) سنگ مرمر (2) آب زم زم

(3) بجر اسود (4) لختِ جگر

13. ’کام آنا‘ اس محاورہ کا مطلب متبادل میں سے تلاش کیجئے۔

(1) محنت کرنا (2) مدد کرنا

(3) کام کرنا (4) کوشش کرنا

14. مندرجہ ذیل کہاوت مکمل کیجئے۔

جادو وہی جو _____

(1) تماشا دکھائے (2) اثر دکھائے

(3) آدمی کو مارے (4) سر چڑھ کر بولے

سوال نمبر 15 سے 17 کے لیے ہدایت :

مندرجہ ذیل مربوط پیرا گراف پر مبنی جملے مناسب متبادل کے ذریعے مکمل کیجئے۔

15. قومی مقابلوں کے مختلف کھیلوں کے لئے _____ سجائے گئے۔

(1) میدان (2) پنڈال

(3) منڈپ (4) راستے

رف کام کے لیے خالی جگہ

16. ان مقابلوں میں ہر _____ سے کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔

- (1) گاؤں
(2) ضلع
(3) ریاست
(4) مُلک

17. کامیاب کھلاڑیوں کو مخصوص _____ سے نوازا گیا۔

- (1) نام
(2) انعام
(3) کھیل
(4) ادب

18. کمپیوٹر میں موجود 'مانیٹر' اس لفظ کا اردو متبادل تلاش کیجئے۔

- (1) نگران
(2) ٹی - وی
(3) پردہ
(4) مظہر

19. 'نہاں' اس لفظ کا متضاد لفظ پہچانیے۔

- (1) گراں
(2) بیاں
(3) عیاں
(4) تپاں

20. 'طاقت' کا ہم معنی لفظ بتائیے۔

- (1) کمزور
(2) پہلوان
(3) بازو
(4) سکت

رف کام کے لیے خالی جگہ

21. مندرجہ ذیل متبادل میں سے مرکب لفظ پہچانیے۔

- (1) دیہات
(2) تراوش
(3) نوسنگھار
(4) غنچہ

22. گھوڑے کے رہنے کی جگہ کو _____ کہتے ہیں۔

- (1) باڑہ
(2) اصطلبل
(3) گول
(4) بارک

23. 'پاٹھا' یہ کس جانور کے بچے کا نام ہے؟

- (1) ہاتھی
(2) اُلو
(3) اونٹ
(4) بھیڑ

24. درج ذیل متبادل میں غلط جوڑی پہچانیے۔

- (1) پی۔وی۔سندھو - بیڈمنٹن
(2) سائننا نہوال - کیرم
(3) ونود کامبلی - کرکٹ
(4) دھیان چند - ہاکی

25. دیئے گئے الفاظ کے مجموعے کے لئے مناسب لفظ کا متبادل پہچانیے۔

مچھلیاں پکڑنے والا۔

- (1) ماہی گیر
(2) ملاح
(3) جال
(4) کاشت کار

رف کام کے لیے خالی جگہ

SECTION - II

MATHEMATICS

26. $5 \text{ dozen} + 2 \text{ gross} = ? \text{ dozens}$
- (1) 28 (2) 29
(3) 25 (4) 27
27. The numbers divisible by 37 are arranged in ascending order. What will be the number at the sixth place?
- (1) 148 (2) 185
(3) 111 (4) 222
28. If 12th August 2017 was Saturday, then which days would occur 5 times in August?
- (1) Thursday, Friday, Saturday (2) Sunday, Monday, Tuesday
(3) Tuesday, Wednesday, Thursday (4) Wednesday, Thursday, Friday
29. If the difference between two decimal fractions is 4.585 and one of the fractions is 3.256, then what is the other decimal fraction?
- (1) 1.329 (2) 7.851
(3) 1.349 (4) 7.841
30. Choose the incorrect option.
- (1) $100 \text{ m} = 1 \text{ hectometer}$ (2) $1000 \text{ l} = 1 \text{ kilo liter}$
(3) $1 \text{ kg} = 10 \text{ hectogram}$ (4) $1 \text{ gm} = 100 \text{ decigram}$

SPACE FOR ROUGH WORK


SECTION - II

ریاضی

26. کتنے درجن = 2 گروس + 5 درجن ؟
- (1) 28 (2) 29
(3) 25 (4) 27
27. 37 سے تقسیم پذیر اعداد کو چڑھتی ترتیب میں لکھنے پر چھٹے مقام پر کونسا عدد ہوگا؟
- (1) 148 (2) 185
(3) 111 (4) 222
28. تاریخ 12 اگست 2017 کو سنیچر تھا، تو بتائیے اس مہینے میں درج ذیل میں سے کونسے دن پانچ مرتبہ آئیں گے؟
- (1) جمعرات ، جمعہ ، سنیچر (2) اتوار ، پیر ، منگل
(3) منگل ، بدھ ، جمعرات (4) بدھ ، جمعرات ، جمعہ
29. دو عشری کسروں کا فرق 4.585 ہے۔ ان میں سے ایک عشری کسر 3.256 ہو تو دوسری عشری کسر کونسی ہوگی؟
- (1) 1.329 (2) 7.851
(3) 1.349 (4) 7.841
30. درج ذیل میں سے غلط متبادل منتخب کیجیے۔
- (1) 100 میٹر = 1 ہیکٹو میٹر (2) 1000 لیٹر = 1 کلویٹر
(3) 1 کلوگرام = 10 ہیکٹوگرام (4) 1 گرام = 100 ڈیسی گرام

رف کام کے لیے خالی جگہ


31. Find the percentage of the shaded portions in the adjoining figure.



- (1) 25 % (2) 4 %
(3) 75 % (4) 7 %
32. What is the difference between the smallest 3 digit odd number and the greatest 2 digit even number?
- (1) 5 (2) 7
(3) 0 (4) 3
33. What is the difference between the first and the last number if 5.435, 5.084, 5.123, 5.064 are arranged in ascending order.
- (1) 0.371 (2) 0.351
(3) 0.312 (4) 0.361
34. Vijayrao purchased 30 dozen oranges at the rate of Rs. 50 per dozen. 15 oranges were spoiled. He sold the remaining oranges at Rs. 6 per orange. How much profit or loss did he earn in this transaction?
- (1) Profit of Rs. 570 (2) Loss of Rs. 570
(3) Loss of Rs. 345 (4) Profit of Rs. 345

SPACE FOR ROUGH WORK

31. درج ذیل شکل میں سایہ زدہ حصے کافی صد معلوم کیجیے۔



4 % (2)

25 % (1)

7 % (4)

75 % (3)

32. تین ہندسی چھوٹے سے چھوٹا طاق عدد اور دو ہندسی بڑے سے بڑا جفت عدد کا فرق کیا ہوگا؟

7 (2)

5 (1)

3 (4)

0 (3)

33. ان اعداد کو چڑھتی ترتیب میں لکھنے پر پہلے اور آخری اعداد کا فرق کتنا ہوگا؟

0.351 (2)

0.371 (1)

0.361 (4)

0.312 (3)

34. گلاب بھائی نے 50 روپے درجن کے حساب سے 30 درجن سنترے خریدے۔ ان میں سے 15 سنترے خراب ہو گئے۔ بقیہ تمام سنترے انھوں نے 6 روپے فی سنترہ کے حساب سے فروخت کیے، تو بتائیے انھیں اس سودے میں کتنا نفع یا نقصان ہوا؟

570 روپے نقصان (2)

570 روپے نفع (1)

345 روپے نفع (4)

345 روپے نقصان (3)

رف کام کے لیے خالی جگہ

35. If 15kg 500gm of rice is filled in a box then how much rice will be required to fill 10 such boxes?

- (1) 115kg (2) 155kg
(3) 1150kg (4) 150kg


36. A bottle can contain 125ml of scented oil. How many bottles will be required to fill 4l of scented oil?

- (1) 32 (2) 24
(3) 50 (4) 34

37. $3\Delta 4\square$ is completely divisible by 6. Which numbers will occur in place of \square and Δ respectively?

- (1) 3, 2 (2) 3, 4
(3) 2, 3 (4) 5, 1

38. Which fraction of the following options does not indicate the equivalent fraction of the unshaded portion in the given figure?



- (1) $\frac{4}{6}$ (2) $\frac{2}{3}$
(3) $\frac{1}{3}$ (4) $\frac{8}{12}$

SPACE FOR ROUGH WORK

35. ایک ڈبہ میں 15 کلو 500 گرام چاول بھرنے پر 10 ڈبوں میں کتنے چاول سمائیں گے؟

(1) 115 کلو (2) 155 کلو

(3) 1150 کلو (4) 150 کلو

36. ایک بوتل میں 125 ملی لیٹر خوشبودار تیل بھرا جاتا ہے تو 4 لیٹر خوشبودار تیل بھرنے کے لیے کتنی بوتلیں درکار ہوں گی؟

(1) 32 (2) 24


(3) 50 (4) 34

37. \square 4 Δ 3 یہ عدد 6 سے مکمل تقسیم پذیر ہو تو بتائیے \square اور Δ کے مقام پر بالترتیب کونسے اعداد ہوں گے؟

(1) 3, 2 (2) 3, 4

(3) 2, 3 (4) 5, 1

38. مقابل کی شکل میں غیر خط کشیدہ حصہ کی ہم قیمت کس کو ظاہر نہ کرنے والی کسر متبادل میں سے پہچانیے۔



(1) $\frac{4}{6}$ (2) $\frac{2}{3}$


(3) $\frac{1}{3}$ (4) $\frac{8}{12}$

رف کام کے لیے خالی جگہ

39. In how many years the principle amount of Rs. 4,000 will get double at the rate of 10 % p.a. by simple interest?

- (1) 20 (2) 10
(3) 5 (4) 2

40. In the adjoining figure, by how much is the number of triangles more or less than that of number of rectangles?



- (1) more by 2 (2) less by 2
(3) more by 4 (4) less by 4

41. Which of the following options has the place value of 5, the least?

- (1) 54,389 (2) 49,385
(3) 45,389 (4) 74,592

42. Choose the incorrect option from the given alternatives.

- (1) $\frac{3}{7}$ of 28 = 12 (2) 15 of $\frac{4}{5}$ = 12
(3) $\frac{6}{7}$ of 14 = 12 (4) 18 of $\frac{8}{9}$ = 12

SPACE FOR ROUGH WORK

39. 4,000 روپے 10 فی صد فی سال کی شرح سے کتنے سال بینک میں رکھنے پر حاصل ہونے والی کل رقم اصل زر کے دگنا ہوگی؟


10 (2)

20 (1)

2 (4)

5 (3)

40. درج ذیل شکل میں مثلثوں کی تعداد، ذواربعتہ الاضلاع کی تعداد سے کتنی کم یا زیادہ ہے؟



2 سے کم (2)

2 سے زیادہ (1)

4 سے کم (4)

4 سے زیادہ (3)

41. درج ذیل متبادلات میں سے کس متبادل میں 5 کی مقامی قیمت کم ہے؟

49,385 (2)

54,389 (1)

74,592 (4)

45,389 (3)

42. درج ذیل میں سے غیر مناسب متبادل منتخب کیجیے۔

$\frac{4}{5}$ کا 15 گنا (2) = 12

28 کا $\frac{3}{7}$ گنا (1) = 12

$\frac{8}{9}$ کا 18 گنا (4) = 12

14 کا $\frac{6}{7}$ گنا (3) = 12

رف کام کے لیے خالی جگہ

43. 504m long wire is cut at 8 places at equal distance. What will be the length of each piece?

- (1) 68m (2) 63m
(3) 56m (4) 54m

44. Write the correct option from the given alternatives.

- (1) $(20 + 5) \div 5 = 20 \div 5 + 5$ (2) $7 \times 8 + 5 = 5 + 8 \times 7$
(3) $105 \div 3 > 4 \times 9$ (4) $100 \times 10 \div 1 < 100 \div 10 \times 10$


45. By how much is the sum of number edges and vertices of a cuboid, more than the difference of the number of edges and faces of a cube?

- (1) 8 (2) 12
(3) 14 (4) 6

46. Harjeet took a loan of Rs. 20,000 from a bank at the rate of 7 p.c.p.a. for 3 years. How much simple interest will he have to pay to the bank?

- (1) Rs. 4,200 (2) Rs. 4,300
(3) Rs. 4,380 (4) Rs. 2,400

47. Complete the following series.



SPACE FOR ROUGH WORK

43. 504 میٹر تار کو 8 جگہ کاٹ کر اس کے مساوی ٹکڑے کرنے پر ہر ایک ٹکڑے کی لمبائی کتنی ہوگی؟

(1) 68 میٹر

(2) 63 میٹر

(3) 56 میٹر

(4) 54 میٹر

44. درج ذیل میں سے کونسا متبادل درست ہے، لکھیے۔

(1) $(20 + 5) \div 5 = 20 \div 5 + 5$

(2) $7 \times 8 + 5 = 5 + 8 \times 7$

(3) $105 \div 3 > 4 \times 9$

(4) $100 \times 10 \div 1 < 100 \div 10 \times 10$

45. مکعب نما کے کناروں اور راسی نقطوں کی حاصل جمع، مکعب کے کناروں اور سطحوں کے فرق سے کتنی زیادہ ہے؟

(1) 8

(2) 12

(3) 14

(4) 6

46. ہرجیت سنگھ نے بینک سے 20,000 روپے 7 فی صدی فی سال کی شرح سے 3 سال کے لیے مفروضہ سود سے لیے۔ تو اسے

بینک کو کتنا سود دینا ہوگا؟


(1) 4,200 روپے

(2) 4,300 روپے

(3) 4,380 روپے

(4) 2,400 روپے

47. درج ذیل تواتر مکمل کیجیے۔



(1) (1)

(2) (2)

(3) (3)

(4) (4)

رف کام کے لیے خالی جگہ

48. How many times $\frac{3}{4}$ should be added to $\frac{3}{4}$, to get the addition 3?
(1) 4 (2) 3
(3) 5 (4) 2
49. In a market, if the cost of 17 boxes of mangoes is Rs. 6,035, then what will be the price of 25 such boxes?
(1) Rs. 355 (2) Rs. 8,875
(3) Rs. 8,625 (4) Rs. 345
50. Maria had to reach for a seminar at 10.30 a.m. but her vehicle got punctured and she got late by 45 min. Then at what time did she reach for the seminar?
(1) 11.30 min (2) 11.45 min
(3) 1.30 min (4) 11.15 min
51. Which of the following options is incorrect?
(1) Any number multiplied by zero, gives the same number.
(2) Any number multiplied by zero, gives zero as the product.
(3) Any number divided by 1 gives the same number as quotient.
(4) Any number divided by the same number gives 1 as quotient.
52. How many 2 digit numbers have 6 in them?
(1) 19 (2) 17
(3) 18 (4) 21

SPACE FOR ROUGH WORK

48. $\frac{3}{4}$ اس کسر میں $\frac{3}{4}$ کتنی مرتبہ جمع کرنے پر حاصل جمع 3 ہوگی؟

(1) 4 (2) 3

(3) 5 (4) 2

49. بازار میں 17 آم کی ٹوکریوں کی قیمت 6,035 روپے ہے تو بتائیے ایسی 25 آم کی ٹوکریوں کی قیمت کتنی ہوگی؟

(1) 355 روپے (2) 8,875 روپے

(3) 8,625 روپے (4) 345 روپے

50. ماریہ کو ایک سیمینار میں ساڑھے دس بجے پہنچنا تھا۔ لیکن گاڑی پینچر ہونے کی وجہ سے اسے پاؤن گھنٹہ دیر ہوئی، تو بتائیے وہ کتنے بجے سیمینار میں پہنچی؟

(1) 11 بجکر 30 منٹ (2) 11 بجکر 45 منٹ

(3) 1 بجکر 30 منٹ (4) 11 بجکر 15 منٹ

51. درج ذیل میں سے کونسا بیان غیر مناسب ہے؟

(1) کسی بھی عدد کو صفر سے ضرب دینے پر حاصل ضرب وہی عدد آتا ہے۔

(2) کسی بھی عدد کو صفر سے ضرب دینے پر حاصل ضرب صفر ہی آتا ہے۔

(3) کسی بھی عدد کو ایک سے تقسیم کرنے پر حاصل تقسیم وہی عدد آتا ہے۔

(4) کسی بھی عدد کو اسی عدد سے تقسیم کرنے پر حاصل تقسیم ایک آتا ہے۔

52. دو ہندسی اعداد میں 6 یہ ہندسہ آنے والے لکل کتنے اعداد ہیں؟

(1) 19 (2) 17

(3) 18 (4) 21

رف کام کے لیے خالی جگہ

53. What remains if 10 is subtracted from 10 % of 200?

- (1) 10 (2) 20
(3) 180 (4) 190

54. Which of the pairs is neither co-prime nor twin prime?

82	88
----	----

71	73
----	----

41	43
----	----

29	31
----	----

- (1) 82, 88 (2) 71, 73
(3) 41, 43 (4) 29, 31

55. Sameer wrote six lakhs seven as 6000007 by mistake. By how much is his answer wrong?

- (1) 54000 (2) 5400000
(3) 600007 (4) 5040000

56. $\left(\frac{3}{4} + \frac{5}{6} + \frac{5}{8}\right) = ?$

- (1) $5\frac{2}{24}$ (2) $\frac{13}{18}$
(3) $1\frac{3}{18}$ (4) $2\frac{5}{24}$

57. A fencing is to be put around a square shape garden with area 625sq.m. What will be the expenses for a 4 layered fencing around it, if the rate of fencing is Rs. 50 per meter?

- (1) Rs. 5,000 (2) Rs. 50,000
(3) Rs. 2,000 (4) Rs. 20,000

SPACE FOR ROUGH WORK

53. 200 کے 10% میں سے 10 تفریق کرنے پر کتنا باقی ہوگا؟

- 20 (2) 10 (1)
190 (4) 180 (3)

54. درج ذیل میں سے کونسی جوڑی جوڑ مفرد عدد بھی نہیں ہے اور باہم مفرد عدد بھی نہیں ہے؟

82	88	71	73	41	43	29	31
----	----	----	----	----	----	----	----

- 71, 73 (2) 82, 88 (1)
29, 31 (4) 41, 43 (3)

55. جاوید نے 'چھ لاکھ سات' اس عدد کو ہندسوں میں لکھتے وقت غلطی سے 6000007 اس طرح لکھا۔ تو اس کا جواب کتنے فرق سے غلط ہوگا؟

- 5400000 (2) 54000 (1)
5040000 (4) 600007 (3)

56. کتنا $\left(\frac{3}{4} + \frac{5}{6} + \frac{5}{8}\right)$ =


- $\frac{13}{18}$ (2) $5\frac{2}{24}$ (1)
 $2\frac{5}{24}$ (4) $1\frac{3}{18}$ (3)

57. 625 مربع میٹر رقبہ والے ایک مربع نما باغ کو چار پھیرے والی باڑ لگانے کے لیے 50 روپے فی میٹر کے حساب سے کتنا خرچ آئے گا؟

- 50,000 روپے (2) 5,000 روپے (1)
20,000 روپے (4) 2,000 روپے (3)

رف کام کے لیے خالی جگہ

58. Under a tree plantation programme, a social welfare organisation decided to plant trees at 5km distance on 100km long road, on both the sides. How many trees can be planted?
- (1) 40 (2) 42
(3) 20 (4) 21
59. Sandeep has a bundle of notes of Rs. 100 from serial number 42378 to 42432. If instead of Rs. 100 notes, he wants Rs. 500 notes, how many notes of Rs. 500 can he get?
- (1) 11 (2) 55
(3) 10 (4) 54
60. Aditya incurred Rs. 9,500 expenditure towards travel for his Kerala trip. He spent Rs. 7,250 on miscellaneous expenses. How much did he spend in all for Kerala trip?
- (1) Rs. sixteen thousand seven hundred and fifty.
(2) Rs. sixteen thousand five hundred.
(3) Rs. seventeen thousand two hundred and fifty.
(4) Rs. fifteen thousand seven hundred and fifty.
61. What is the time in the adjacent clock?



- (1) 12 (2) 9
(3) 8 (4) 11

SPACE FOR ROUGH WORK

58. ایک امداد باہمی تنظیم نے شجرکاری مہم کے تحت 100 کلومیٹر لمبائی والے راستے پر 5 کلومیٹر فاصلے پر ایک، اس طرح دونوں جانب درخت لگانے کا فیصلہ کیا۔ تو بتائیے کل کتنے درخت لگائے جاسکتے ہیں۔

(1) 40 (2) 42

(3) 20 (4) 21

59. عبدالنافع کے پاس 42378 نمبر سے 42432 نمبر تک ترتیب وار نوٹوں والا 100 روپیوں کا ایک بنڈل ہے۔ ان 100 روپیوں کی بجائے انھیں 500 روپے کے نوٹ چاہیے۔ تو بتائیے 500 روپے کے کل کتنے نوٹ آئیں گے؟

(1) 11 (2) 55


(3) 10 (4) 54

60. آصف کی کیرالہ کی تعلیمی سیر کے سفر کا خرچ ساڑھے نو ہزار روپے اور دیگر خرچ سواں سات ہزار روپے ہوا۔ تو بتائیے اس کی کیرالہ تعلیمی سیر کا کل کتنا خرچ ہوا؟

(1) پاؤنے ستر ہزار (2) ساڑھے سولہ ہزار

(3) سواں ستر ہزار (4) پاؤنے سولہ ہزار

61. مقابل کی گھڑی میں کتنے بجے ہیں؟




(1) 12 (2) 9

(3) 8 (4) 11

رف کام کے لیے خالی جگہ


62. Find the perimeter of the adjoining figure if the area of every square is 1 sq. cm.



- (1) 22 cm (2) 22 sq. cm.
(3) 12 cm (4) 12 sq. cm.
63. $435 \times 1 * = 5 * * 0$
In this multiplication, * has the same digit. Find the digit in place of *.
- (1) 0 (2) 1
(3) 2 (4) 3
64. Iqbal purchased an old motorcycle at Rs. 25,000. He spent Rs. 8,500 on its repairs, Rs. 2,500 for its colouring and then sold it at Rs. 38,500. How much profit did he earn in the following transaction?
- (1) Rs. 13,500 (2) Rs. 2,500
(3) Rs. 2,850 (4) Rs. 1,550
65. Which of the following is a correct statement?
- (1) The sum of all angles of a square is 180° .
(2) The sum of all angles of a triangle is equal to right angle.
(3) The number of sides of a rectangle is double the number of sides of a triangle.
(4) The sum of all angles of a triangle is half the sum of all angles of a rectangle.

SPACE FOR ROUGH WORK

62. درج ذیل شکل کے ہر ایک مربع کا رقبہ 1 مربع سم ہے۔ تو اس شکل کا احاطہ معلوم کیجیے۔



(2) 22 مربع سم

(1) 22 سم

(4) 12 مربع سم

(3) 12 سم

63. $435 \times 1 * = 5 * * 0$

درج بالا ضرب میں * کی جگہ یکساں عدد ہے۔ تو بتائیے وہ عدد کونسا ہوگا؟

(2) 1

(1) 0

(4) 3

(3) 2

64. اقبال نے 25,000 روپے میں ایک پرانی موٹر سائیکل خریدی۔ اس کی مرمت پر 8,500 روپے اور رنگ دینے کے لیے 2,500 روپے خرچ کیے اور اس موٹر سائیکل کو 38,500 روپے میں فروخت کر دیا۔ تو بتائیے اس سودے میں اسے کتنا نفع ہوا؟

(2) 2,500 روپے

(1) 13,500 روپے

(4) 1,550 روپے

(3) 2,850 روپے

65. درج ذیل میں سے کونسا بیان صحیح ہے؟

(1) مربع کے چاروں زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ 180° ہوتا ہے۔

(2) مثلث کے تمام زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ زاویہ قائمہ کے برابر ہوتا ہے۔

(3) ذواربعتہ الاضلاع کے ضلعوں کی تعداد مثلث کے ضلعوں کی تعداد سے دگنی ہوتی ہے۔

(4) مثلث کے تمام زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ، ذواربعتہ الاضلاع کے تمام زاویوں کی پیمائش کے مجموعے کا نصف ہوتا ہے۔

رف کام کے لیے خالی جگہ

66. Which is the greatest number?

0.91

0.899

0.090

0.900

(1) 0.91

(2) 0.899

(3) 0.090

(4) 0.900

67. To help the flood victims, the students of Adarsh Vidyalaya collected Rs. 47,989 and the students of Saraswati Vidyalaya collected Rs. 8,493. From the total amount if Rs. 50,042 are used for domestic items and remaining amount is used for food packets. How much amount is spent on food packets?

(1) Rs. 6,340

(2) Rs. 6,440

(3) Rs. 5,440

(4) Rs. 5,340

68. Which of the following statements is correct?

(1) $25\% = \frac{25}{1000}$

(2) $5\% \text{ of } 20 = 4$

(3) $50\% \text{ of } 50 = 2.5$

(4) $0.68 = 68\%$

69. What is the diameter of a circular ground whose radius is 7.6m?

(1) 3.8m

(2) 15.2m

(3) 14m

(4) 7.6m

70. 2.25m cloth is required to stitch a shirt. How much cloth is required to stitch 5 such shirts?

(1) 10.75m

(2) 11.25m

(3) 8.75m

(4) 9.25m

SPACE FOR ROUGH WORK

66. درج ذیل میں سے سب سے بڑا عدد کونسا ہے؟

0.91 0.899 0.090 0.900

0.899 (2) 0.91 (1)

0.900 (4) 0.090 (3)

67. آدرش ہائی اسکول نے 47,989 روپے اور سرسوتی ہائی اسکول نے 8,493 روپے باڑھ میں پھنسنے لوگوں کیلئے امدادی رقم جمع کیں۔ اس میں سے 50,042 روپے گھریلو چیزوں کے لیے اور بقیہ رقم غذائی پیکٹ کے لیے خرچ کیے گئے۔ تو بتائیے غذائی پیکٹ کے لیے کل کتنی رقم استعمال کی گئی؟

6,440 روپے (2) 6,340 روپے (1)

5,340 روپے (4) 5,440 روپے (3)

68. درج ذیل میں سے کونسا بیان صحیح ہے؟

$20 = 4$ کا 5 فی صد (2) $25\% = \frac{25}{1000}$ (1)

$0.68 = 68\%$ (4) $50 = 2.5$ کا 50 فی صد (3)

69. 7.6 میٹر وتروالے دائروے میدان کا قطر کتنا ہوگا؟

15.2 میٹر (2) 3.8 میٹر (1)

7.6 میٹر (4) 14 میٹر (3)

70. ایک قمریض سینے کے لیے سوواں دو میٹر کپڑا درکار ہوتا ہے۔ تو بتائیے ایسے پانچ قمریض سینے کے لیے کتنا کپڑا درکار ہوگا؟

سواں گیارہ (2) پاؤنے گیارہ (1)

سواں نو (4) پاؤنے نو (3)




رف کام کے لیے خالی جگہ

71. How much more is the number of divisors of 36, than that of divisors of 24?
 (1) more by 1 (2) more by 2
 (3) more by 3 (4) more by 4
72. What will be the consecutive number after seventy five lakhs nine thousand five hundred and thirty five?
 (1) 759536 (2) 7590535
 (3) 7509534 (4) 7509536
73. Under “Tree Conservation” programme, Maharashtra Government planted 8000 trees on Amravati-Akola and Amravati-Yavatmal Highway, on both sides of the road. If 40 % trees are planted on Amravati-Akola highway, how many trees are planted on Amravati-Yavatmal highway?
 (1) 3200 (2) 4200
 (3) 1600 (4) 4800

Instruction for Question No. 74 and 75.

Observe the pictorial information and answer the questions.

In a village, people have different coloured Ration Cards.

Colour of Ration Card	No. of houses
White	
Yellow	
Orange	

Scale : 1 picture = 100 houses

SPACE FOR ROUGH WORK

71. 36 کے کل عادی تعداد 24 کے کل عادی بہ نسبت کتنی زیادہ ہے؟

- (1) 1 سے
(2) 2 سے
(3) 3 سے
(4) 4 سے

72. ”چھتر لاکھ نو ہزار پانچ سو پینتیس“ اس عدد کے بعد آنے والا متواتر عدد درج ذیل میں سے کونسا ہے؟

- (1) 759536
(2) 7590535
(3) 7509534
(4) 7509536




73. ”درخت کی نگہداشت“ اس مہم کے تحت مہاراشٹر حکومت نے امراتی - اکولہ اور امراتی - ایوت محل ان شاہراہوں پر

دونوں جانب 8000 درخت لگائے۔ ان میں سے 40 فی صد درخت امراتی - اکولہ اس شاہراہ پر لگائے تو بتائیے امراتی - ایوت محل اس شاہراہ پر کتنے درخت لگائے گئے؟

- (1) 3200
(2) 4200
(3) 1600
(4) 4800

سوال نمبر 74 اور 75 کے لیے ہدایت :

درج ذیل تصویری معلومات کی بناء پر سوالات کے جوابات تلاش کیجیے۔
ایک دیہات کے کچھ گھروں میں درج ذیل رنگوں کے راشن کارڈ ہیں۔

راشن کارڈ کا رنگ	گھروں کی تعداد
سفید	
پیلا	
نارنگی	

پیمانہ : 1 تصویر = 100 گھر

رف کام کے لیے خالی جگہ

74. What is the number of houses that have orange colour card?

(1) 800

(2) 400

(3) 200

(4) 600

75. How many times is the number of houses with white card to that of the number of houses with yellow and orange colour card?

(1) 3 times

(2) $\frac{1}{3}$ times

(3) Double

(4) $\frac{1}{2}$ times

SPACE FOR ROUGH WORK

74. نارنگی راشن کارڈ والے گھروں کی کل تعداد کتنی ہے؟

400 (2)

800 (1)

600 (4)

200 (3)

75. سفید راشن کارڈ والے گھروں کی تعداد، پیلے اور نارنگی راشن کارڈ والے گھروں کی تعداد کے کتنے گنا ہے؟

گنا $\frac{1}{3}$ (2)

گنا 3 (1)

گنا $\frac{1}{2}$ (4)

گنا 2 (3)

رف کام کے لیے خالی جگہ

رف کام کے لیے خالی جگہ